

Press Release
March 7, 2017
For immediate release

SECP files criminal case regarding price manipulation in stock market

ISLAMABAD, March 7: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) filed criminal complaint on Tuesday against a person who manipulated the price of shares of Gauher Engineering Limited (now Drekkar Kingsway Limited). As a result of an investigation, it emerged that the accused and his associates bought a major stake in Gauher Engineering Limited in 2014 at a very subsidized rate.

Gauher Engineering at that time was on the Pakistan Stock Exchange's defaulters counter. Upon resumption of trading, the accused placed significant buy orders to ramp the price of shares. Subsequently, these shares were sold to market participants at higher prices to earn substantial gains. The accused also used his private limited company, in which he and his family has majority shareholding. It may be noted that market manipulation is a criminal offence under the Securities Act, 2015, liable to punishment of imprisonment of either description for a term which may extend to three years or a fine not exceeding Rs100 million or both.

It is the second criminal complaint filed by SECP within 14 days, which shows its firm commitment to its policy of zero tolerance towards market abuse and any malpractice in the stock market. The SECP is striving its best to ensure transparency in the capital market and strengthen investors' confidence.

ایس ای سی پی نے سٹاک مارکیٹ میں حصص میں ہیر پھیر کرنے پر کر مینل کیس دائر کر دیا

اسلام آباد (7 مارچ) سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے سٹاک مارکیٹ میں ایک کمپنی گوہرا انجنیئرنگ لمیٹڈ (موجودہ نام ڈریکار کنگزوی لیمیٹڈ) کے حصص کی قیمتوں میں ہیر پھیر کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف کر مینل کیس دائر کر دیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس شخص اور اس کے ساتھیوں نے گوہرا انجنیئرنگ لمیٹڈ کے زیادہ تر حصص 2014 میں انتہائی رعایتی قیمت پر خریدے۔

اس وقت گوہرا انجنیئرنگ پاکستان اسٹاک ایکس چینج کے ڈیفالٹ کاؤنٹر پر موجود تھی۔ سٹاک ایکس چینج کے نارمل کاؤنٹر پر اس کی ٹریڈنگ بحال ہونے کے بعد ملزموں نے اس کے حصص کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کے لئے بڑے پیمانے پر خریداری کے آرڈر جاری کئے۔ جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو اس کمپنی کے حصص قابل ذکر منافع پر فروخت کر دئے گئے۔ مصنوعی طور پر قیمت بڑھانے کی اس سکیم میں ملزم نے اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بھی استعمال کیا۔

واضح رہے کہ حصص کی قیمتوں میں ہیر پھیر ایک جرم ہے جس کی سزائیں سال قید اور دس کروڑ روپے تک جرمانہ ہے۔ گزشتہ دو ہفتوں میں ایس ای سی پی کی جانب سے دائر کیا جانے والا یہ دوسرا کر مینٹل کیس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایس ای سی پی مارکیٹ میں بدعنوانی کو ہر گز برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔